

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 275-281

اَلْبَيْعُ	اَلْمَسِّسُ	يَتَخَبَّطُ+هٗ	يَ+قَوْمٌ-وَنَ	يَ+اَكُلُ-وَنَ
ب ی ع	م س س	خ ب ط+ضمیر	ضمیر+ق و م	ضمیر+ا ک ل
تجارت کو	چھو کر	خبطی بنادیا ہو+اس کو	وہ+کھڑے ہوں گے	وہ+کھاتے ہیں
The trade	Touch	confounds him	they can stand	consume

يَ+مُحِقٌ	عَادَ	سَلَفَ	فَ+اُنْتَهَى	مَوْعِظَةٌ
م ح ق	ع و د	س ل ف	حرف+ن ہ ی	و ع ظ
مٹاتا ہے	لوٹے	گزر چکا	پھر+وہ رک جائے	ایک نصیحت
Destroys	Repeated	passed	and he refrained	admonition

بِ+حَرْبٍ	ذَرُّواْ	اَثِيْمٍ	كَفَّارٍ	يُرْبِيْ
حرف+ح ر ب	و ذ ر	ا ث م	ک ف ر	ر ب و
لیے+جنگ کے	چھوڑ دو	گناہگار کو	ناشکرے	بڑھتا ہے
Of a war	give up	sinner	ungrateful	Increase

رُءُوسُ	تَ+ظَلِمُونَ	تُظَلَمُونَ	عُسْرَةَ	فَ+نَظَرَةٌ
ر اُس	ظ ل م	ظ ل م مجہول	ع س ر	حرف + ن ظ ر
اصل	تم + ظلم کرو گے	تم پر ظلم کیا جائے گا	تنگی - تنگدست	تو + مہلت دیتا ہے
Is real	wrong	you will be wronged	in difficulty	then postponement

مَيْسَرَةٍ	تُرْجَعُونَ	تُوفَى	كَسَبَتْ
ي س ر	ر ج ع مجہول	و ف ي مجہول	ک س ب
آسانی	تم لوٹائے جاؤ گے	پورا پورا دیا جائے گا	اس نے کمائی کی
Ease	you will be brought back	Will be repaid in full	It earned